



## LOVE, CARE AND RESPECT FOR NEIGHBOURS



ہماری زندگی میں دو طرح کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مستقل طور پر ہمارے ساتھ یا ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ دوسرے ہمارے عارضی ہمسائے ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے ساتھی ملازمین، کلاس فیلوز، ٹیم ممبرز اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ پبلک مقامات شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جہاز، ٹرین یا بس وغیرہ میں سفر کرتے ہیں۔

لاکھوں لوگ بشمول ڈاکٹرز، نرسز، طبی عملہ، فوج، پولیس، رضاکار اور فرنٹ لائن ورکرز نے کرونا وائرس کی وباء کے دوران اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر ہماری خدمت کی ہے۔ ہمارے مستقل یا عارضی ہمسائیوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا ہو یا کسی ایسے انسان سے واسطہ ہو جس نے کرونا وائرس کی وباء کے دوران ہماری یا ہمارے جیسے دیگر لوگوں کی بے لوث خدمت کی ہو۔ ہمارے مستقل اور عارضی ہمسائیوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے کسی پیارے نے ہماری جان بچاتے بچاتے اپنی جان کرونا وائرس کی نظر کردی ہو۔ وہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کا کوئی عزیز یا دوست کرونا وائرس کے ہاتھوں جان گنوا چکا ہو۔

اب ہمارا فرض ہے کہ ہم رنگ، نسل، قومیت، مذہب اور جنس کے فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے کرونا وائرس کی وباء کے دوران ہماری خدمت کی ہے اور ان لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کریں جن کے پیارے ان سے جدا ہوئے ہیں۔

اگر ہم اپنے مستقل اور عارضی پڑوسیوں سے محبت، شفقت اور احترام سے پیش آئے تو ہم ہر طرح کی تفریق، تعصب، زبانی، کلامی یا جسمانی اذیت رسائی اور سماجی نفرتوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ آئے ہم ایک اچھے پڑوسی والا رویہ اپنائے اور چراغ سے چراغ جلائیں تاکہ معاشرہ عزت، احترام اور محبت کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔



PTO



ہمیں فالو کریں:



<http://loveyourneighbours.org>



[info@loveyourneighbours.org](mailto:info@loveyourneighbours.org)

# اچھے ہمسائیوں کا رویہ

Love thy neighbour



1. اپنے ہمسائیوں کیلئے وہی پسند کرتے ہیں جو وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔
2. ہمسائیوں کے ساتھ مہربانی اور نرمی سے پیش آتے ہیں۔
3. جب ہمسائے مدد کیلئے کہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔
4. اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہمسائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔
5. اپنے زیر استعمال چیزیں بوقت ضرورت ہمسائیوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
6. ہمسائیوں کی کامیابیوں پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔
7. جب ہمسائے پریشان ہو تو ان کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
8. اگر ہمسائیوں پر کوئی مصیبت آئے تو ان سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہیں۔
9. اگر ہمسائے بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔
10. اگر ہمسائیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔
11. کسی بھی مشکل گھڑی میں ہمسائیوں کے ساتھ اپنا کھانا پینا شیئر کرتے ہیں۔
12. اپنے ہمسائیوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔
13. اپنا مکان یا زمین بیچتے وقت سب سے پہلے ہمسائیوں کو خرید کیلئے پیش کرتے ہیں۔
14. کبھی اپنی زبان یا عمل سے ہمسائیوں کے جذبات کو مجروح نہیں کرتے۔
15. کبھی ہمسائیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔
16. کبھی اپنے ہاتھ یا زبان سے ہمسائیوں کو تکلیف نہیں دیتے۔
17. کبھی اپنے ہمسائیوں پر جھوٹا الزام نہیں لگاتے اور ان کی خامیوں کی تشہیر نہیں کرتے۔
18. کبھی ہمسائیوں کو ڈراتے یا دھمکاتے نہیں ہیں۔
19. کبھی ہمسائیوں کی کوئی چیز اجازت کے بغیر یا واپس نہ کرنے کی نیت سے استعمال نہیں کرتے۔
20. کبھی اپنے شور و غل سے ہمسائیوں کو پریشان نہیں کرتے۔ اور ان کی طرف سے پہنچائے جانی والی تکلیف کو تحمل سے برداشت کرتے ہیں۔
21. کبھی ایسی عمارت تعمیر نہیں کرتے جس سے ہمسائیوں کے قدرتی رہن سہن کو نقصان پہنچے۔
22. کبھی ہمسائیوں کے گھروں میں بدبختی سے تانک جھانک نہیں کرتے۔ اور ان کی نجی زندگی اور ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔
23. کبھی اپنی دولت، طاقت یا کسی دنیاوی کامیابی کی بناء پر ہمسائیوں کو نیچا نہیں دکھاتے۔
24. کبھی ہمسائیوں کے تحائف کو حقیر نہیں جانتے خواہ وہ قیمت یا سائز میں کتنے ہی کم ہوں۔
25. کبھی اپنی سخاوت اور مہربانی کے دروازے ہمسائیوں کیلئے بند نہیں کرتے۔

ہم عطیہ میں آپ سے رقم نہیں بلکہ ایک مہربان رویہ مانگتے ہیں۔ آپ یہ leaflet ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور leaflet کو پرنٹ یا اس کی کاپیاں کر کے اپنے آس پاس کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ پڑوسیوں سے محبت، شفقت اور احترام کی اس مہم کو فروغ دینے میں ہمارا ساتھ دیں۔